

## Lowering the Gaze and Modesty غَضُّ بَصَرٍ وَحَيَاءٍ

1. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضًا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَغْضٌ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالطِّفْلِ الَّذِينَ كَمْ يَظْهَرُونَ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ﴿٣١﴾

مؤمن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے ﴿٣٠﴾ اور مؤمن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو۔ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھینچوں اور بھانجوں اور اپنی (ہی قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں (کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مؤمنو! سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ ﴿٣١﴾ (24: t/30-31)

Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them and Allah is well aware of what they do. ﴿٣٠﴾ And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty, that they should not display their beauty and ornaments except what appear thereof, that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husbands'

sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or the slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs or small children who have no knowledge of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments. And O believers! You turn to Allah, so that you may be successful. ﴿24: An-Nur\ 30-31﴾

2. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ (باہر نکلا کریں تو) اپنے (مونہوں) پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لئے موجب شناخت (وامتیاز) ہو گا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ﴿33: { / ۵۹﴾

O Prophet! Tell your wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons. That is most proper that they should be recognized and not troubled. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. ﴿33: Al-Ahzab\59﴾

### ایفائے عہد Fulfilments of Covenants

1. وَبِعْهِدِ اللَّهُ أَوْفُوا ۗ

اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ﴿6: b / ۱۵۲﴾

And fulfill the covenant of Allah. ﴿6: Al-Ana'm\ 152﴾

2. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ ﴿17: بنی اسرائیل \ m / ۳۴﴾

And fulfill the promise; surely the promise will be enquired about. ﴿17 Bani-Israael/Al-Isra\34﴾

3. بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾

ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور (اللہ سے) ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ﴿١٧﴾

(3: /\_ :46)

Yes. - Those who keep their promise and are guardful, then Allah surely love the guardfuls. ﴿3: A'l-e-Imran\ 76﴾

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ط

اے ایمان والو! اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ ﴿5: /a﴾

O you who believe! Fulfill (the) obligations. ﴿5: Al-Ma'idah\ 1﴾

5. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿﴾

اور جب اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کئی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا

ضامن مقرر کر چکے ہو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ﴿16: /1﴾

Fulfill the covenant of Allah when you have entered into it, and break not your oaths after you have confirmed them. Indeed you have made Allah your surety Verily Allah knows all that you do. ﴿16: An-Nahl \ 91﴾

6. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ ط أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿﴾

جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز (یعنی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھنے کا اللہ

نے حکم دیا ہے اس کو قطع کئے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ﴿﴾

(2: /2 :24)

Those who break Allah's covenant after it is ratified, and cut as under what Allah has ordered to be joined, and do mischief on earth. These it is that are losers. ﴿2: Al-Baqarah\ 27﴾

## دیانت و امانت Honesty and Trust Worthiness

1. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿﴾

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ﴿﴾

(4: An-Nis'a\ 58)

Allah does command you to make over trusts to those to whom they are due. And when you judge between people, judge with justice. Verily Allah admonishes you what is excellent. Surely Allah is ever Hearing, Seeing. ﴿﴾ (4: An-Nis'a\ 58)

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿﴾

اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم جانتے

ہو۔ ﴿﴾ (8: Al-Anfal\ 27)

O you who believe! Betray not the trust of Allah and the Messenger, nor be unfaithful to trust, while you know. ﴿﴾ (8: Al-Anfal\ 27)

3. وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانذِرْ لَهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿﴾

اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو (ان کا عہد) انہیں کی طرف پھینک دو (اور) برابر (کا جواب

دو) کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ﴿﴾ (8: Al-Anfal\ 58)

If you fear treachery from any group, throw back to them, on equal terms. Indeed Allah loves not the treacherous. ﴿﴾ (8: Al-Anfal\ 58)

4. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيْبًا ۗ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا ۗ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَيْمًا ۗ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ أَذِيبٌ ۗ مَا لِيَظَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿﴾

اور (دیکھو) دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا ﴿﴾ اور اللہ سے بخشش مانگنا بے شک اللہ بخشنے والا

مہربان ہے ﴿﴾ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ اللہ خائن اور

مرتبک جرائم کو دوست نہیں رکھتا ﴿﴾ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی

باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے (تمام) کاموں پر احاطہ

کئے ہوئے ہے۔ ﴿﴾ (4: An-Nis'a\ 105-108)

So be not an advocate of the dishonests. ﴿﴾ but seek the forgiveness of Allah; for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. ﴿﴾ Contend not on behalf of such as betray their own souls. Surely Allah loves not the

treacherous, sinful. ﴿﴾ they may hide from people, but they cannot hide from Allah and He is with them when they plot by night, in words that please Him not. And Allah ever encompasses what they do. ﴿﴾

(4: An-Nis'a\ 105-108)

5. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ وَمَنْ يَكْتُمْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿﴾

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر (اللہ) خیانت کریں۔ اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز (اللہ کے روبرو) لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ﴿﴾ (3: 161)

It is not for a prophet to act dishonestly. And whoever acts dishonestly, shall, on the day of Resurrection, bring his dishonesty. Then shall every soul be paid back, whatever it earned, they shall not be wronged. ﴿﴾